

سابقے اور لاحقے

ایک لفظ سے دوسرے لفظ بننے کا عمل اشتقاق کہلاتا ہے۔ اردو زبان کی تخصیص ہے کہ اس میں قواعد کے مطابق ایک لفظ سے کئی دوسرے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اردو سابقے اور لاحقے کا دروبست بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

سابقے: سابقے سے مراد وہ بامعنی یا بے معنی لفظ، حرف یا علامت ہے جو کسی موجود مفرد لفظ سے قبل یوں لکھی جائے کہ اس سے ایک ایسا نیا لفظ یا کلمہ ترکیب پا جائے جو نئے معنی کا حامل ہو، مثلاً: مراد سے بامراد، ادب سے بے ادب، چھوت سے اچھوت، وارث سے لا وارث، جان سے یک جان، قرآن سے صاحب قرآن وغیرہ۔

لاحقے: لاحقے سے مراد وہ بامعنی یا بے معنی لفظ، حرف یا علامت ہے جو کسی موجود مفرد لفظ کے بعد یوں لکھی جائے کہ اس سے ایک ایسا نیا لفظ یا کلمہ ترکیب پا جائے جو نئے معنی کا حامل ہو، مثلاً: قلم سے قلم دان، علم سے علم بردار، میز سے میز پوش، ضرورت سے ضرورت مند، شہر سے شہر یار، مدد سے مددگار، قیام سے قیام گاہ وغیرہ۔

طلبہ کی سہولت کے لیے ذیل میں چند سابقے اور لاحقے دیے جاتے ہیں:

سابقے

اُن	اُن پڑھ، اُن مول، اُن جان، اُن گنت، اُن تھک، اُن دیکھا
اہل	اہل بیت، اہل نظر، اہل کمال، اہل قلم، اہل وطن، اہل علم
با	با ادب، با خدا، با وفا، با وقار، با کمال، با قاعدہ
بر	بر آمد، بر آمدہ، بر باد، برتر، برحق، برخاست
بلا	بلا امتیاز، بلا ناغہ، بلا قیمت، بلا اجازت، بلا ارادہ، بلا تکلف، بلا تامل
بلند	بلند کردار، بلند نظر، بلند ہمت، بلند اقبال، بلند فطرت، بلند پرواز
بن	بن بلا یا، بن دیکھا، بن بیابا، بن دام، بن روئے
بے	بے ادب، بے علم، بے عقل، بے خبر، بے نصیب، بے مثال، بے پروا، بے کار
پُر	پُر جوش، پُر کیف، پُر ہول، پُر درد، پُر وقار، پُر آب، پُر آشوب، پُر معنی، پُر نعم
پس	پس منظر، پس ماندہ، پس پردہ، پس خوردہ، پس انداز
پیش	پیش بندی، پیش خدمت، پیش خیمہ، پیش رفت، پیش رو، پیش قدمی
خود	خود غرض، خود رو، خود آرا، خود ارادیت، خود پسندی، خود نمائی

خوش	خوش بُو، خوش خلق، خوش باش، خوش گلو، خوش دامن، خوش مزاج، خوش خط
دَر	دَر پردہ، دَر پے، دَر پیش، دَر کار، دَر میان، دَر گزر، دَر آمد
زیر	زیر سایہ، زیر علاج، زیر دست، زیر لب، زیر بار، زیر حراست
زُود	زُود پشیمان، زُود رنج، زُود ہضم، زُود اثر، زُود فہم، زُود نویس
شاہ	شاہ راہ، شاہ رگ، شہباز، شہتوت، شہ بالا، شہ سوار، شہ کار
غیر	غیر ممکن، غیر معمولی، غیر موزوں، غیر ذمہ دار، غیر حاضر، غیر آباد، غیر مشروط
کم	کم نظر، کم ظرف، کم ہمت، کم حوصلہ، کم عقل، کم گو، کم خرچ، کم زور
لا	لا زوال، لا حاصل، لا علاج، لا وارث، لا تعداد، لا جواب، لا اولد، لا ثانی
نا	نامراد، نالائق، ناتواں، نادان، ناجائز، ناپاک، ناتجربہ کار، نابالغ، نادانستہ
نُو	نوعمر، نوجوان، نوخیز، نونہال، نو مسلم، نو وارد، نوزائیدہ، نو بہار، نو آموز، نو آباد
نیم	نیم جان، نیم روز، نیم حکیم، نیم مُلا، نیم مردہ، نیم پختہ، نیم لُٹل، نیم کش
ہم	ہم سفر، ہم صفیر، ہم راز، ہم نام، ہم وطن، ہم جماعت، ہم چشم، ہم خیال
یک	یک رنگ، یک زبان، یک دل، یک لخت، یک دم، یک جہتی



لاحقے

اندیش	خیر اندیش، بد اندیش، مصلحت اندیش، دور اندیش، عاقبت اندیش
انگیز	نفرت انگیز، حیرت انگیز، عبرت انگیز، درد انگیز، فکر انگیز
انداز	خلل انداز، دست انداز، در انداز، رخنہ انداز، تیر انداز، پس انداز
آرا	انجمن آرا، جہاں آرا، بزم آرا، صف آرا، عالم آرا، مسند آرا، گیتی آرا
آلود	خون آلود، زنگ آلود، گرد آلود، غبار آلود، قہر آلود، خشم آلود، عرق آلود
آور	تن آور، زور آور، بخت آور، حملہ آور، نشہ آور، قد آور
بان	دربان، شتر بان، فیل بان، مہربان، باغبان، ساربان، نگہ بان، گلہ بان، میزبان
بخش	فرحت بخش، منفعت بخش، جان بخش، حیات بخش، خدا بخش، صحت بخش، مولا بخش

بردار	عَلَم بردار، ناز بردار، فرماں بردار، مشعل بردار، حاشیہ بردار، عصا بردار
پرست	آتش پرست، بت پرست، حق پرست، خود پرست، سر پرست، زر پرست، قدامت پرست
پرور	بندہ پرور، تن پرور، سخن پرور، احباب پرور، غریب پرور، کنبہ پرور، کینہ پرور
پَن	کنوار پن، گنوار پن، بچپن، لڑکپن، دیوانہ پن، بھول پن، اکھڑ پن، بانک پن
پوش	میز پوش، سفید پوش، سرخ پوش، سیاہ پوش، پاپوش، گرد پوش، کمبل پوش، پلنگ پوش
خانہ	جیل خانہ، کارخانہ، باورچی خانہ، قمارخانہ، شفاخانہ، بت خانہ، غریب خانہ، غسل خانہ
خواہ	خیر خواہ، تنخواہ، بدخواہ، قرض خواہ، خاطر خواہ، بہی خواہ، عذر خواہ، دادخواہ
خور	چغلی خور، غوطہ خور، حرام خور، حلال خور، آدم خور، مردار خور، شراب خور
خیز	زر خیز، مردم خیز، نو خیز، سحر خیز، فتنہ خیز، بلا خیز، دھماکا خیز، تعجب خیز، قیامت خیز
دار	وفادار، جہاں دار، داغ دار، جان دار، سمجھ دار، سرمایہ دار، تاج دار، آب دار، پہرے دار
دان	قلم دان، قدر دان، پان دان، عطر دان، سیاست دان، ریاضی دان، مکنتہ دان
رساں	چٹھی رساں، فیض رساں، سراغ رساں، پیغام رساں، ضرر رساں، ایذا رساں، نفع رساں
زار	لالہ زار، سبزہ زار، چمن زار، ریگ زار، گل زار، مرغ زار، خارزار
ساز	قانون ساز، جلد ساز، دواساز، زمانہ ساز، چارہ ساز، سخن ساز، حیلہ ساز
ستان	کوہستان، گلستان، خارستان، نخلستان، قبرستان، پاکستان، بلوچستان، ازبکستان
شکن	بت شکن، حوصلہ شکن، قانون شکن، دندان شکن، پیمان شکن، خمیر شکن، عہد شکن، دل شکن
شناس	اداشناس، مزاج شناس، حق شناس، خود شناس، موقع شناس، قدر شناس، رُوشناس
طلب	خیر طلب، آرام طلب، انصاف طلب، محنت طلب، جفا طلب، شہرت طلب، مرمت طلب
فروش	جو فروش، سرفروش، گل فروش، ضمیر فروش، کتب فروش، بردہ فروش، غلہ فروش
کدہ	بت کدہ، آتش کدہ، دولت کدہ، آرام کدہ، نعمت کدہ، صنم کدہ، غم کدہ، حیرت کدہ
گار	پروردگار، کردگار، روزگار، خدمت گار، پرہیزگار، مددگار، طلب گار، سازگار
گاہ	آرام گاہ، پناہ گاہ، بارگاہ، قیام گاہ، چراگاہ، عیدگاہ، شکارگاہ، کمین گاہ
گر	آہن گر، بازی گر، کارگر، زرگر، غارت گر، جادوگر، چارہ گر، دریوزہ گر، شیشہ گر